



ندا ڈار آج اپنا 100 واں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کھیلیں گی

لاہور، 28 فروری 2020ء:

آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2020 کے لیے اعلان کردہ قومی اسکواڈ میں شامل آلراؤنڈر ندا ڈار 28 فروری بروز جمعہ کو اپنا 100 واں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کھیلیں گی۔ ندا ڈار کو یہ اعزاز عالمی کپ کے دوران انگلینڈ کے خلاف کینبرا میں شیڈول میچ میں حاصل ہوگا۔

تینتیس سالہ تجربہ کار کھلاڑی پاکستان کی جانب سے یہ اعزاز حاصل کرنے والی تیسری کرکٹر ہیں۔ انہوں نے تاحال پاکستان کی جانب سے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔ وہ اپنے ٹی ٹونٹی کیریئر میں 17.76 کی اوسط سے 94 وکٹیں اور 95.83 کے اسٹرائیک ریٹ سے 1104 رنز بنا کی ہیں۔

ندا ڈار کے علاوہ کپتان بسمہ معروف اور ثناء میر کو پاکستان کی جانب سے 100 ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے کا اعزاز حاصل ہے۔ بسمہ معروف تاحال 107 اور ثناء میر 106 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیل چکی ہیں۔

ندا ڈار:

ندا ڈار نے کہا کہ 100 ویں ٹی ٹونٹی میچ کے لیے میدان میں اترنا ان کے لیے اعزاز کا باعث ہے اور وہ اس حوالے سے بہت پر جوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس میچ کو یادگار بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گی۔

آلراؤنڈر نے کہا کہ پاکستان میں خواتین کرکٹ تیزی سے فروغ پارہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سمیت اب تک صرف 3 پاکستانی کھلاڑی یہ اعزاز حاصل کر سکیں مگر جس تیزی سے پاکستان میں ویمنز کرکٹ کو پذیرائی مل رہی ہے، انہیں یقین ہے کہ آنے والی کرکٹرز کی ایک بڑی تعداد یہ ہندسہ جلد عبور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔

تجربہ کرکٹرز نے کہا کہ وہ اس یادگار موقع پر اپنے کوچز کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کیریئر میں ان کا ساتھ نبھانے پر اپنے اہل خانہ اور دوستوں کی مشکور ہیں۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk